

برائے فوری اجراء

ولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر کو لیڈ® گولڈ سرٹیفیکیشن سے نواز دیا گیا ہے

برامپٹن، آن (6 مئی 2019) – سٹی آف برامپٹن کو ایک مرتبہ پھر اپنی ماحولیاتی طور پر قابل استحکام عمارتوں پر سراہا گیا ہے۔ ولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر (WPOC) نے کینیڈا گرین بلڈنگ کاؤنسل کی جانب سے لیڈرشپ ان انرجی اینڈ انوائرنمنٹل ڈیزائن (LEED®) کی گولڈ سرٹیفیکیشن حاصل کر لی ہے۔

WPOC ایک دو منزلہ، 3,700 مربع میٹر پر محیط ایک انتظامی عمارت ہے، جس کے ساتھ ایک باغ اور تقریبات کے لیے ٹیرس، سبزے والی جگہ اور عملے اور عوام کے لیے پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ ماحولیاتی اقدامات کی کچھ شہ سرخیاں، جو اس کی LEED® سرٹیفیکیشن کا سبب بنیں، یہ ہیں:

- جائے کار پر پانی کے استعمال میں کمی (مثلاً کم بہاؤ والے نلکے استعمال کرنا، آبپاشی کا نظام نہ رکھنا)
- برساتی پانی کو منتظم کرنے کے لیے تالاب، تاکہ برساتی نالوں میں جانے والے پانی کی مقدار کو کم کیا جا سکے
- ہیٹ اینالینڈ افیکٹ کو کم کرنے کے لیے چھت پر سورج کی روشنی کو منعکس کرنے والے مواد کا استعمال
- عمارت کی خودکاریت کے ساتھ ایک جیوتھرمل ہیٹ پمپ سسٹم
- ہائیسائیکل ریکس اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو چارج کرنے کے تین اسٹیشنز کی تنصیب کے ساتھ متبادل نقل و حمل میں معاونت
- سبزیوں کے باغ کے ساتھ سبزے والے چھت کی جگہ، جو ہیٹ اینالینڈ افیکٹ کو اور ٹھنڈک کے نظام پر بوجھ کو کم کرنا ہے
- قدرتی طرز کی سبزے والی جگہیں، جس سے آبپاشی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لہذا پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے

لیڈ® سرٹیفیکیشن ڈیزائن، تعمیر اور عملدرآمد کے حوالے سے عمارت کی غیر معمولی ماحولیاتی استحکامیت کو تسلیم کرتی ہے۔ لیڈ® سرٹیفیکیشن کے حصول کے لیے پراجیکٹس کو کئی زمروں میں پوائنٹس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً مقام اور نقل و حمل، پانی کی بچت، توانائی اور ماحول، مواد اور وسائل، جدت اور مزید۔ حاصل کردہ پوائنٹس کی تعداد کی بنیاد پر، ایک پراجیکٹ کو لیڈ® ریٹنگ کے چار درجوں میں سے ایک ملتا ہے: سند یافتہ، سلور، گولڈ یا پلاتینم۔ 2015 میں مکمل ہونے والے WPOC پراجیکٹ کو 60 پوائنٹس ملے، جس سے یہ گولڈ ریٹنگ کے لیے اہل ہو گیا۔

سٹی آف برامپٹن 2007 سے لیڈ® سرٹیفیکیشن کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ درج ذیل پراجیکٹس نے بھی لیڈ® گولڈ سرٹیفیکیشن حاصل کر لی ہے:

- برامپٹن فائر اسٹیشن 212
- سٹی ہال کی توسیع اور ویسٹ ٹاور
- برامپٹن فائر اسٹیشن 211 اور پیل پیرامیڈک سنٹر
- گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اینڈ لائبریری

درج ذیل پراجیکٹ کو لیڈ® کے معیارات کے مطابق ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا تھا اور حتمی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں:

- سپرنگ ٹیل لائبریری
- WPOC فیز 2
- برامپٹن اپریٹس اینڈ مینٹیننس بلڈنگ
- برامپٹن فائر اسٹیشن 204 میں توسیع

اقتباس

"اس دور کے لیے کونسل کی سمتوں میں سے ایک سمت ایک ماحول دوست شہر کی تعمیر ہے۔ ہم لیڈ® کے اور استحکام کے دیگر اصولوں پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ اخراج کو کم کیا جا سکے اور برامپٹن کو زیادہ قابل استحکام شہر بنایا جا سکے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 Monika.Duggal@brampton.ca